

21785 - عاشوراء کے ساتھ نومحرم کے روزے کا استحباب

سوال

میں اس سال عاشوراء کا روزہ رکھنا چاہتا ہوں ، مجھے کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ میں عاشوراء کے ساتھ نو محرم کا روزہ بھی رکھوں ، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی راہنمائی ملتی ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

الحمد لله

عبدالله بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ : جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ خود بھی رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا تو صحابہ کرام انہیں کہنے لگے یہودی اور عیسائی تو اس دن کی تعظیم کرتے ہیں -

تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے : آئندہ برس ہم ان شاء اللہ نو محرم کا روزہ رکھیں گے ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ آئندہ برس آنے سے قبل ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے -

صحیح مسلم حدیث نمبر (1916) -

امام شافعی اور ان کے اصحاب ، امام احمد ، امام اسحاق ، اور دوسروں کا کہنا ہے کہ :

نومحرم اور یوم عاشوراء یعنی دس محرم دونوں کا روزہ رکھنا مستحب ہے ، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دس محرم کا روزہ رکھا اور نو محرم کا روزہ رکھنے کی نیت کی -

تو اس بنا پر یوم عاشوراء کے مراتب اور درجات ہیں ، کم از کم درجہ یہ ہے کہ صرف دس محرم کا روزہ رکھا جائے ، اور اس سے اوپر والا درجہ یہ ہے کہ دس کے ساتھ نو محرم کا روزہ بھی رکھا جائے ، محرم میں جتنے بھی زیادہ روزے رکھے جائیں گے وہ افضل اور بہتر ہیں -

اسلام سوال و جواب

نگران اعلیٰ:
شیخ محمد صالح المنجد

اگر آپ یہ کہیں کہ دس محرم کے ساتھ نومحرم کاروزہ رکھنے میں حکمت کیا ہے ؟

تو اس کا جواب یہ ہے :

امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

ہمارے اصحاب اور دوسرے علماء کرام نے نومحرم کے روزے کی حکمت میں کئی ایک وجوہات بیان کی ہیں :

پہلی :

اس سے یہود و نصاریٰ کی مخالفت مقصود ہے ، کہ وہ صرف دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہی مروی ہے -

دوسری :

اس کا مقصد ہے کہ یوم عاشوراء کے ساتھ اور روزہ بھی ملایا جائے ، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جمعہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے -

تیسری :

دس محرم کا روزہ رکھنے میں احتیاط کہ کہیں چاند کم دنوں کا نہ ہو ، جس کی بنا پر غلطی ہو جائے اس لیے نومحرم کا روزہ رکھنا عدد میں دس محرم ہو جائے گا - انتہی -

ان وجوہات میں سب سے قوی اور صحیح وجہ یہی ہے کہ اہل کتاب کی مخالفت مراد ہے -

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں اہل کتاب سے مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے مثلاً یوم عاشوراء کے بارہ میں ہی فرمایا کہ :

(اگر میں آئندہ برس زندہ رہا تو نومحرم کا روزہ رکھوں گا) دیکھیں الفتاویٰ الکبریٰ (6) -

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث پر تعلیق کرتے ہوئے کہتے ہیں :

اسلام سوال و جواب

نگران اعلیٰ:
شیخ محمد صالح المنجد

(اگر میں اگلے برس تک باقی رہا تو نومحرم کا روزہ رکھوں گا)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نومحرم کے روزے کا ارادہ اور قصد کیا اس کے معنی میں احتمال ہے کہ صرف نو پر ہی منحصر نہیں بلکہ اس کے ساتھ دس کا بھی اضافہ کیا جائے گا ، یا تو اس کی احتیاط کے لیے یا پھر یہود و نصاریٰ کی مخالفت کی وجہ سے ، اور یہی راجح ہے جو مسلم کی بعض روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے - انتھی -

دیکھیں فتح الباری (4 / 245) -

واللہ اعلم .